

JUZ XXV

47. Ngen si ba mbelek kenamen tentang biley kiamat. Ngen coa ade buak-buak keluwei kunei kelopakne ngen coa suang bie mnegandung ngen pulo melaher melainkan ngen sepengetauhan Ne. Pado biley Tuhan mduoi tobo o nak ipe ba kuat-kuat ku iyo. Tobo o jemawab keme nyatone utuk ngakao bahwa doa ade nak antaro keme gik melei saksei (bahwo ko ade sekutu).

48. Do nyep laput ba kuni tobo, o jano do terus tobo, o semmeak men'o, do to yakin bahwa coa ade, bagi tobo,o do dalen kelua ne.

49. Manusia coa jemawo minoi kebaikan, do amen tobo,o dapet malapetaka si ijai putus aso igai harapan.

50. Do amen keme meraso kuni ne ade sesuatu rahmat kuni keme suda si keno Saro, peset si madeak: "dio ade ba hak ku, do uku coa yakin bahwa biloi kiamat o akan sapie, do uku nelek ngen tuhan ku mako benea-benea ne Uku akan dapet kebaikan pado sisi ne. " Mako keme benea akan madeak ne berita ngen tun-tun kapea jano do suda tobo, o menea ngen do kem,e medi ng ne ngen tobo, o azab do benek.

51. Do amen keme melei nikma ngen meuak awok; tapi amen si keno mala petaka mako si dau mduo.

52. Nadeak ba: "awei pe pendapat nu amen Al Qur'an do sapie kuni sisi Allah, sudoo ko mengingkarinya. Api do lebiak sesat,

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ الْسَّاعَةِ وَمَا تَحْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُثْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا
ءَادَنَّكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلٍ وَظَنُّوا مَا هُمْ مِنْ حَيْصٍ
لَا يَسْعُمُ الْإِنْسَنُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الْشَّرُّ فَيَوْسٌ قَنُوطٌ

وَلِئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسْتَهُ
لِيُقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَطْنُ الْسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلِئِنْ
رُجِعْتُ إِلَى رَيْتَ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنْتَيَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ
غَلِظٍ

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَنِ أَعْرَضَ وَنَأَا بِحَانِبِهِ
وَإِذَا مَسَّهُ الْشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ

فُلَّ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرُمْ

kuni tun do selalu nak penyimpangan do uak?".

بِهِ مَنْ أَصْلُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيرٌ ﴿٤١﴾

53. Keme pacok kemten ne ngen tobo, o o tano-tano[kekuasaan] keme neak segalo Wilayah bumei ngen pado tobo, o dewek, hingga jelas bagi tobo, o bahwa Al-quran o ade benea coa ba cukup bahwa benea-benea tuhan nu jijai saksi sai nak segalo segai

سَنُرِيهِمْ إِذَا يَتَّبَعُونَ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ

يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَحَقُّ أَوْلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٢﴾

54. Ninget ba bahwa sebenea ne tobo, o. Ade ba nak lem ragau tentang pertemuan ngen tuhan tobo,o. Ingatla bahwa sebenea ne. Si maha meliputi segalo sesuatu.

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ

شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٤٣﴾